

کیا آپ کے گھر اور جائیداد آب و ہوا کے مطابق تیار (کلائمیٹ ریڈی) ہیں؟ جنگل کی آگ اور دھوئیں کے لیے تیاری کیسے کریں۔

موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جنگل کی آگ زیادہ کثرت سے ہو رہی ہے۔ کیلگری نے گزشتہ 30 سالوں میں دھوئیں دار حالات میں نمایاں اضافہ کا تجربہ کیا ہے، اور وہ مزید دھوئیں دار حالات کا تجربہ کرتا رہے گا کیونکہ موسمیاتی تبدیلی گرمیوں کو گرم خشک اور طویل تر بناتی ہے، اور طوفان کے واقعات کے زیادہ امکانات کے ساتھ، جو آسمانی بجلی گرنے کا سبب بنتے ہیں۔

اگرچہ کیلگری کو شمالی اور پہاڑی قصبوں کی طرح جنگل کی آگ سے سامنا نہیں ہے، لیکن کیلگری میں کچھ کمیونٹیز جنگلاتی علاقوں، گھاس کے میدانوں اور پارکس کے قریب واقع ہیں جن میں آگ پر قابو پانے کے مسائل کا امکان ہے۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کیلگری میں کہاں رہتی/ رہتے ہیں، آپ کے جنگل کی آگ کے دھوئیں سے متاثر ہونے کا امکان ہے۔

گھر پر موسمیاتی تبدیلی کے خطرے کو کم کرنے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے calgary.ca/climatereadyhome دیکھیں۔



دھوئیں دار حالات کے لیے تیاری کے طریقے:



خراب شدہ کھڑکیوں کی مرمت کریں اور استعمال کی وجہ سے نقصان زدہ یا غائب موسم کی پٹیاں (ویبدر اسٹریٹنگ) کو تبدیل کریں۔



نیا گھر بنانے وقت یا اپنے HVAC سسٹم کو تبدیل کرتے وقت اپنے سنٹرل ایئر سسٹم میں ایئر پیوریفائر شامل کرنے پر غور کریں۔



HEPA (High Efficiency Particulate Air) فلٹر کے ساتھ ایک پورٹبل ایئر پیوریفائر خریدیں جو مائیکروسکوپک ذرات کو پھنسانے۔ ایئر پیوریفائر کو آپ کے گھر کے زیادہ تر کمروں میں پلگ ان اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔



کیلگری میں ایئر کوالٹی بیلٹھ انڈیکس اور موجودہ اور پیشن گوئی شدہ دھوئیں کے حالات کے لیے WeatherCan ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ دھوئیں اور اپنی صحت کے بارے میں معلومات کے لیے Canada.ca/wildfire-smoke پر جائیں۔

دھوئیں دار حالات میں اپنے آپ کو بچانے کے طریقے:



یقینی بنائیں کہ A/C فلٹرز اور فرنس فلٹرز صاف ہیں، اور ضرورت پڑنے پر انہیں تبدیل کریں۔ اپنے فرنس کے لیے، 13 MERV کی درجہ بندی کے ساتھ فلٹر کا انتخاب کریں، یا آپ کے سسٹم کے پنکھے اور فلٹر سلاٹ کی گنجائش پر منحصر زیادہ سے زیادہ درجہ بندی کا انتخاب کریں۔



اندرونی فضائی آلودگی کے ذرائع کو کم کریں جیسے ایئر فریشنر، موم بتیاں، گیس کے چولہے، ویکیومز اور صفائی کی مصنوعات۔ اگر ممکن ہو تو، ایسا کھانا تیار کریں جس میں پکانے کا عمل شامل نہ ہو (خاص طور پر فرائی کرنا اور برائلنگ) کیونکہ ان سے اندر کی ہوا کا معیار متاثر ہو سکتا ہے۔



کچھ لوگ، جیسے بزرگ، دھوئیں سے صحت کے مسائل سے زیادہ خطرہ کے حامل ہوتے ہیں۔ دھوئیں کے واقعات کے دوران خاندان اور کمیونٹی کے ارکان کی خبر لیں، اور ان لوگوں کی مدد کریں جو ممکن طور پر صحت کے مسائل کے لئے زیادہ حساس ہیں۔



تمام کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں، اور ہاتھ رووم یا کچن کے پنکھے بند کر دیں تاکہ دھواں آپ کے گھر میں داخل نہ ہو۔

جب آپ جنگل کی آگ کے خطرے سے دوچار کمیونٹی میں رہتے ہیں:



مقامی آگ پر پانڈیوں سے آگاہ رہیں، یقینی بنائیں کہ آپ کے دھوئیں اور CO کے الارمز کام کر رہے ہیں، اور گھر سے بچ نکلنے کے منصوبے پر مشق کریں۔ اپنے آپ کو آگ کے خطرے سے بچانے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے calgary.ca/fire یا firesmartalberta.ca پر جائیں۔



اگر تزئین و آرائش کر رہی/ رہے ہیں تو، آگ کی مزاحمت کی بنیاد پر اپنے مواد کے انتخاب پر غور کریں۔ آگ سے بچنے والے چھت سازی کا سامان کلاس A کا انتخاب کریں۔ سائڈنگ کے لیے، سیمنٹ فائبر، اینٹ، یا دھات آگ سے تحفظ کے لیے وائنل (vinyl) کے مقابلے میں بہتر اختیارات ہیں۔



اپنی ہوم انشورنس پالیسی کا جائزہ لیں اور اپنے انشورنس فراہم کنندہ سے پوچھیں کہ آگ سے ہونے والے نقصان کی صورت میں آپ کی پالیسی کیا احاطہ کرتی ہے۔



اپنی چھت، ویٹس اور گٹروں سے سوئیاں، پتے اور دیگر آتش گیر مواد کو ہٹا دیں۔ جلنے والی اشیاء (آگ جلانے والی لکڑی، پیڑ کی لکڑی وغیرہ) کو اپنے گھر سے کم از کم 10 میٹر دور رکھیں۔